

فوق در صورتی که در وقت

3. در صورتی که در وقت...

در وقت...

در وقت...

در وقت...

در وقت...

در وقت...

در وقت...

در وقت...

در وقت...

در وقت...

در وقت...

در وقت...

در وقت...

در وقت...

در وقت...

در وقت...

در وقت...

در وقت...

در وقت...

در وقت...

سکونتی سکریتری داریتوونی قوینتی سکریتری
قوینتی سکریتری داریتوونی سکریتری قوینتی
داریتو.

(ب) سکریتری سکریتری قوینتی سکریتری سکریتری
داریتوونی سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری
سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری
(د) سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری

(ب) سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری
سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری
سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری
سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری

سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری
سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری
سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری
سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری

The Library and Archives of People's Majlis

سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری
سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری
سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری
سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری

(ب) سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری
سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری
سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری
سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری سکریتری

دواړو لخوا (د) دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا
دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا
دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا

دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا

(د) دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا

دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا
دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا

دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا

دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا

دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا

(۱) دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا
دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا
دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا
دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا

The Library and Archives of People's Majlis

دواړو لخوا

(۲) دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا

دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا
دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا

دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا

(د) دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا . 85 . 82 . 80 . 79 . 76

دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا (دواړو لخوا دواړو لخوا دواړو لخوا)

کتابخانه مجلس شورای اسلامی

کتابخانه مجلس شورای اسلامی (۱) 76

کتابخانه مجلس شورای اسلامی

کتابخانه مجلس شورای اسلامی

کتابخانه مجلس شورای اسلامی (۲)

کتابخانه مجلس شورای اسلامی

کتابخانه مجلس شورای اسلامی

کتابخانه مجلس شورای اسلامی

کتابخانه مجلس شورای اسلامی

کتابخانه مجلس شورای اسلامی

کتابخانه مجلس شورای اسلامی (۳)

کتابخانه مجلس شورای اسلامی

کتابخانه مجلس شورای اسلامی

The Library and Archives of People's Majlis

کتابخانه مجلس شورای اسلامی

کتابخانه مجلس شورای اسلامی (۴)

کتابخانه مجلس شورای اسلامی

کتابخانه مجلس شورای اسلامی

کتابخانه مجلس شورای اسلامی

کتابخانه مجلس شورای اسلامی (۵) 79

کتابخانه مجلس شورای اسلامی

کتابخانه مجلس شورای اسلامی

(ب) مکره پرچونو دچ پرانی ونو مکره دکرانو

نت پراچونو ناسو دکرانو برنادره مکره پرچونو

مکره پرچونو مکره پرچونو مکره پرچونو دکرانو

مکره پرچونو مکره پرچونو مکره پرچونو دچ پرانی

مکره پرچونو مکره پرچونو مکره پرچونو دکرانو

مکره پرچونو مکره پرچونو مکره پرچونو دکرانو

مکره پرچونو مکره پرچونو مکره پرچونو دکرانو

مکره پرچونو مکره پرچونو مکره پرچونو دکرانو

مکره پرچونو مکره پرچونو مکره پرچونو دکرانو

مکره پرچونو مکره پرچونو مکره پرچونو دکرانو

مکره پرچونو

(ب) مکره پرچونو ناسو دکرانو برنادره

مکره پرچونو مکره پرچونو مکره پرچونو دکرانو

مکره پرچونو مکره پرچونو مکره پرچونو دکرانو

مکره پرچونو مکره پرچونو مکره پرچونو دکرانو

(3) (ا) مکره پرچونو دچ پرانی ونو مکره دکرانو

مکره پرچونو مکره پرچونو مکره پرچونو دکرانو

مکره پرچونو مکره پرچونو مکره پرچونو دکرانو

مکره پرچونو مکره پرچونو مکره پرچونو دکرانو

مکره پرچونو مکره پرچونو مکره پرچونو دکرانو

(ب) مکره پرچونو دچ پرانی ونو مکره دکرانو



The Library and Archives of People's Majlis

بے وقت ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ ہرگز
 نہ ہو گا یہ سب کچھ ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ
 ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ
 ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ
 ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ

(4) ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ
 ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ
 ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ
 ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ

ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ
 ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ
 ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ
 ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ

ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ
 ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ

The Library and Archives of People's Majlis

ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ
 ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ
 ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ

(5) ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ
 ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ
 ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ ہرگز نہ ہو گا یہ سب کچھ

مذہب و عقیدت کے بارے میں جو باتیں کہیں گے وہ سب سچ ہیں اور ان کو کبھی نہ بدستور نہ کرنا اور نہ ہی ان کو

مذہب و عقیدت سے بدستور کرنا۔

مذہب و عقیدت کے بارے میں جو باتیں کہیں گے وہ سب سچ ہیں اور ان کو کبھی نہ بدستور نہ کرنا اور نہ ہی ان کو

مذہب و عقیدت سے بدستور کرنا۔

مذہب و عقیدت کے بارے میں جو باتیں کہیں گے وہ سب سچ ہیں اور ان کو کبھی نہ بدستور نہ کرنا اور نہ ہی ان کو

مذہب و عقیدت سے بدستور کرنا۔

مذہب و عقیدت کے بارے میں جو باتیں کہیں گے وہ سب سچ ہیں اور ان کو کبھی نہ بدستور نہ کرنا اور نہ ہی ان کو

مذہب و عقیدت سے بدستور کرنا۔

مذہب و عقیدت کے بارے میں جو باتیں کہیں گے وہ سب سچ ہیں اور ان کو کبھی نہ بدستور نہ کرنا اور نہ ہی ان کو

مذہب و عقیدت سے بدستور کرنا۔

مذہب و عقیدت کے بارے میں جو باتیں کہیں گے وہ سب سچ ہیں اور ان کو کبھی نہ بدستور نہ کرنا اور نہ ہی ان کو

مذہب و عقیدت سے بدستور کرنا۔

مذہب و عقیدت کے بارے میں جو باتیں کہیں گے وہ سب سچ ہیں اور ان کو کبھی نہ بدستور نہ کرنا اور نہ ہی ان کو

مذہب و عقیدت سے بدستور کرنا۔

مذہب و عقیدت کے بارے میں جو باتیں کہیں گے وہ سب سچ ہیں اور ان کو کبھی نہ بدستور نہ کرنا اور نہ ہی ان کو

مذہب و عقیدت سے بدستور کرنا۔

مذہب و عقیدت کے بارے میں جو باتیں کہیں گے وہ سب سچ ہیں اور ان کو کبھی نہ بدستور نہ کرنا اور نہ ہی ان کو

مذہب و عقیدت سے بدستور کرنا۔

مذہب و عقیدت کے بارے میں جو باتیں کہیں گے وہ سب سچ ہیں اور ان کو کبھی نہ بدستور نہ کرنا اور نہ ہی ان کو

مذہب و عقیدت سے بدستور کرنا۔

مذہب و عقیدت کے بارے میں جو باتیں کہیں گے وہ سب سچ ہیں اور ان کو کبھی نہ بدستور نہ کرنا اور نہ ہی ان کو



The Library and Archives of People's Majlis

3. مکتوب و شرح و تفسیر آن در بارهٔ مکتوب و شرح

و شرح مکتوب، مکتوب و شرح و تفسیر آن است

و شرح مکتوب و تفسیر آن در بارهٔ مکتوب

مکتوب و شرح و تفسیر آن

4. مکتوب و شرح و تفسیر آن در بارهٔ مکتوب و شرح

مکتوب و شرح و تفسیر آن در بارهٔ مکتوب و شرح

مکتوب و شرح و تفسیر آن در بارهٔ مکتوب و شرح

مکتوب و شرح و تفسیر آن در بارهٔ مکتوب و شرح

مکتوب و شرح و تفسیر آن در بارهٔ مکتوب و شرح

مکتوب و شرح و تفسیر آن در بارهٔ مکتوب و شرح

مکتوب و شرح و تفسیر آن در بارهٔ مکتوب و شرح

مکتوب و شرح و تفسیر آن در بارهٔ مکتوب و شرح

مکتوب و شرح و تفسیر آن در بارهٔ مکتوب و شرح

مکتوب و شرح و تفسیر آن در بارهٔ مکتوب و شرح

مکتوب و شرح و تفسیر آن در بارهٔ مکتوب و شرح

مکتوب و شرح و تفسیر آن در بارهٔ مکتوب و شرح

مکتوب و شرح و تفسیر آن در بارهٔ مکتوب و شرح

95. مکتوب و شرح و تفسیر آن در بارهٔ مکتوب و شرح

مکتوب و شرح و تفسیر آن در بارهٔ مکتوب و شرح

مکتوب و شرح و تفسیر آن در بارهٔ مکتوب و شرح

مکتوب و شرح و تفسیر آن در بارهٔ مکتوب و شرح



The Library and Archives of People's Majlis

دست یسار خوقوقو 22 () کبرو رو

دردو دردو

97. دردو دردو دردو دردو

() دردو دردو دردو دردو

دردو دردو دردو

دردو دردو دردو دردو

دردو دردو دردو

دردو دردو دردو دردو

دردو دردو دردو

دردو دردو دردو دردو

دردو دردو دردو

() دردو دردو دردو

9 دردو دردو (117) دردو دردو دردو

() دردو دردو دردو دردو

دردو دردو دردو

دردو دردو دردو دردو

دردو دردو دردو

دردو دردو دردو دردو

دردو دردو دردو دردو

The Library and Archives of People's Majlis

دردو دردو دردو دردو

(5) دردو دردو 124 دردو دردو (دردو دردو دردو دردو دردو) دردو

دردو دردو دردو دردو 130 دردو دردو (دردو دردو دردو دردو) دردو

دردو دردو دردو دردو دردو دردو دردو

130. دردو دردو دردو دردو دردو دردو

دردو دردو دردو

دردو دردو دردو دردو دردو

دردو دردو دردو

دردو دردو دردو دردو دردو

دردو دردو دردو دردو دردو

تَرْجَمَةُ دَعْوَةِ اِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَرْجَمَةُ اِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 وَتَرْجَمَةُ اِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَرْجَمَةُ اِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 وَتَرْجَمَةُ اِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَرْجَمَةُ اِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 وَتَرْجَمَةُ اِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَرْجَمَةُ اِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 وَتَرْجَمَةُ اِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَرْجَمَةُ اِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

دَعْوَةُ اِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَرْجَمَةُ اِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

حَقِيقَةُ اِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۱۱۰۵۰



مجلس شورای اسلامی ایران

اِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 اِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَرْجَمَةُ اِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 اِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَرْجَمَةُ اِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ